

ROOTWORDS OF SURAH FURQAN 35-60

تَنْبِيرًا	الرَّسِّ	فَدَمَّرْنَاَهُمْ	أَذْهَبَا	وَزِيرًا
ت ب ر	ر س س	د م ر	ذ ه ب	و ز ر
ہلاک کرنا	کنوئیں	پس ہم نے ہلاک کر دیا انہیں	تم دونوں جاؤ	مددگار / بوجھ اٹھانے والا
هَوَاهُ	كَادَ	هُزُوا	نُشُورًا	أَمْطَرَتْ//مَطَرًا
ہ و ی	ک و د	ہ ز ا	ن ش ر	م ط ر
اپنی خواہش نفس کو	قریب تھا	مذاق کرنے لگتے	دوبارہ اٹھنے کی	برسا یا گیا / بارش
يَسِيرًا	ذَلِيلًا	سَاكِنًا	الظَّلَّ	مَدَد
ی س ر	د ل ل	س ک ن	ظ ل ل	م د د
آسانی سے / آہستہ آہستہ	نشانی	ٹھیرا یا ہوا	سایہ کو	پھیلا یا ہے
صَرَفْنَاهُ	أَنَاسِيَّ	نُسْقِيَهُ	سُبَاتًا	النَّوْمَ
ص ر ف	ا ن س	س ق ی	س ب ت	ن و م
ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں اسے	انسان	ہم پلاتے ہیں اسے	آرام	نیند کو
فَرَاتٌ	عَذَبٌ	مَرَجٌ	فَأَبَى	أَنْعَامًا
ف ر ت	ع ذ ب	م ر ج	أ ب ی	ن ع م
خوشگوار	میٹھا	ملا دیا	پس انکار کیا	چوپایو
صِهْرًا	نَسَبًا	حِجْرًا//مَحْجُورًا	أَجَاجٌ	مِلْحٌ
ص ہ ر	ن س ب	ح ج ر	أ ج ج	م ل ح
سسرال	نسب / خاندان	ایک بند // بنایا ہوا	کڑوا ہے	کھاری
	نُفُورًا	فَأَسْأَلُ	ظَهْرًا	
	ن ف ر	س أ ل	ظ ہ ر	
	نفرت ہوتی ہے / فرار	پس پوچھو	پشتیناھی / مددگار	